

## ڈراما

ڈراما یونانی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہیں ”کرنا“ یا کر کے دکھانا۔ ادب میں یہ ایسی صنف ہے جس میں کرداروں، مکالموں اور مناظر کے ذریعے کسی کہانی کو پیش کیا جاتا ہے۔ قدیم ہندوستان میں سنسکرت کا ویہ میں بھی اس کی روایت بہت مضبوط تھی اور اس کو ”تائیہ“ کہا جاتا تھا۔

ارسطو نے ڈرامے کو زندگی کی نقاہی کہا ہے۔ داستان، ناول اور افسانے کے مقابلہ میں ڈراما اس لحاظ سے حقیقت سے قریب تر ہوتا ہے کہ اس میں الفاظ کے ساتھ ساتھ کردار، اُن کی بول چال اور زندگی کے مناظر بھی دیکھنے والوں کے سامنے آتے ہیں۔ کرداروں کی ذہنی اور جذباتی سکھلش کو مکالمے اور آواز کے اُتار چڑھاؤ کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ ڈراما بیادی طور پر سٹچ کی چیز ہے، لیکن ایسے بھی ڈرامے لکھے گئے ہیں اور لکھے جاتے ہیں جو صرف سٹانے اور پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ریڈیو کی وجہ سے ڈراموں کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اور ٹیلی وِژن پر جس طرح کے سیریل سب سے زیادہ پیش کیے جاتے ہیں، اُن کا تعلق کسی نہ کسی طرح ڈرامے ہی کی صنف سے ہوتا ہے۔

ارسطو نے ڈرامے کے اجزاء ترکیبی میں بنچھے چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے۔ قصہ، کردار، مکالمہ، خیال، آرائش اور موسیقی۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر ڈرامے میں سگنیت یا موسیقی کا عضور ہو۔ پلاٹ، کردار، مکالموں اور مرکزی خیال کا ہونا البتہ ضروری ہے۔ ڈرامے کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں واقعات کی کثیریاں اس طرح ملائی جائیں کہ بتدریج نقطہ عروج تک پہنچ سکیں اور ناظرین کی توجہ ایک لکنے یا خیال پر مکروز ہو جائے۔ اس کے بعد ڈراما انجام کی طرف بڑھتا ہے۔ واقعات سے جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے، وہ انجام کے ذریعے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حق و باطل اور خیر و شر کی کش مکش، بیادی انسانی اقدار اور سماجی، قومی و سیاسی مسائل کو ڈراموں میں پیش کیا جاتا ہے۔

اردو میں ڈرامے کا آغاز واحد علی شاہ کے زمانے میں ہوا جب ”رادھا کنھیا“ کا قصہ اسٹچ کیا جانے لگا۔ امانت کی ”اندر سجا“ بھی اسی زمانے میں لکھی گئی جو بے حد مقبول ہوئی۔ ”اندر سجا“ کے اثر سے بعد کے پارسی اردو تھیٹر میں بھی رقص و موسیقی کا

خاصاً زور رہا۔ انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے آغاز میں اردو تھیٹر نے بہت ترقی کی اور آغا حشر کے ڈرامے بہت مقبول ہوئے۔ اس کے بعد امتیاز علی تاج، حکیم احمد شجاع، ڈاکٹر سید عبدالحسین، پروفیسر محمد مجیب، مرزا ادیب، اشتیاق حسین قریشی اور فضل الرحمن نے ڈراما نگاری پر خصوصی توجہ کی۔ کرشن چندر، سعادت حسن منشو، راجندر سنگھ بیدی اور ریوتی سرن شرمانے بھی ریڈی یائی ڈرامے لکھے اور ڈراما نگاری کی روایت کو مزید استحکام بخشا۔



## محمد مجیب

(1902 – 1985)

محمد مجیب لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک معروف وکیل تھے۔ انھوں نے ابتدائی تعلیم لکھنؤ کے لوریٹو کالج میں حاصل کی۔ اس کے بعد دہرہ دون کے ایک پرائیویٹ اسکول سے سینیر کمپرس کا امتحان پاس کیا۔ 1919ء میں محمد مجیب نے آسفسورڈ سے جدید تاریخ میں بی۔ اے (آئرز) کیا۔ برلن میں اُن کی ملاقات ڈاکٹر ڈاکٹر حسین اور ڈاکٹر سید عابد حسین سے ہوئی۔ وہیں انھوں نے جرمن اور روسی زبانیں یاد کیے۔ فرانسیسی زبان وہ آسفسورڈ میں سیکھ چکے تھے۔ ڈاکٹر ڈاکٹر حسین کے ساتھ انھوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کام کرنے کا عہد کیا۔ فروری 1926ء میں وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شیخ الجامعہ (وائس چانسلر) بنائے گئے اور وہ اس عہدے پر چوبیس برس تک فائز رہے۔ ان کا انتقال دہلی میں ہوا۔

مجیب صاحب انتظامی امور کے ساتھ تصنیف و تالیف کے کام میں بھی برابر لگے رہے۔ اردو اور انگریزی میں ان کی بہت سی کتابیں شائع ہوئیں۔ مجیب صاحب نے آٹھ ڈرامے لکھے جن کے نام ہیں：“کھیتی”，“اجمام”，“خانہ جنگی”，“جب خاتون”，“ہیرون کی تلاش”，“آزمائش”，اور ”دوسری شام“، اور پچوں کے لیے ایک ڈراما ”آڈراما کریں“۔ مجیب صاحب صاف، سادہ اور سلیمانی نثر لکھتے تھے۔ ان کے مکالموں میں بول چال کا فطری انداز ہے۔

نصاب میں جو ڈرامہ شامل ہے وہ مجیب صاحب کے ڈرامے ”آزمائش“ کا آخری ایکٹ ہے۔ یہ ڈراما 1857ء کے الٹ ناک تاریخی واقعات پر مبنی ہے۔ جزل بخت خاں اور اس کی ہندوستانی فوجوں کو شکست ہو چکی ہے۔ بہادر شاہ ظفر گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ انگریزوں کا دہلی پر قبضہ ہو جانے کے بعد پکڑ دھکڑہ شروع ہو چکی ہے۔ رام سہائے کی بیوی بھاگ وتنی نے جنگ آزادی کی دو مجاهد خواتین سملی اور کشن کنوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ بخت خاں کے سپاہی اگرچہ ہار گئے ہیں لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں۔

## آزمائش

(آخری ایکٹ)

رام سہائے مل کے مکان میں ایک چھوٹا سا دالان۔ رات ہو گئی ہے۔ ڈیوٹ پر ایک دیا جمل رہا ہے۔ رام سہائے مل اس کی روشنی میں کھانا کھا رہا ہے۔ بھاگ وتی، اس کی بیوی، آنجل سے منجھ بند کیے کھڑی ہے، اس کو پنچھا جھل رہی ہے اور چپکے چپکے رو رہی ہے۔ رام سہائے مل کو اس کے رونے کا احساس نہیں ہے اور وہ کھانا کھاتا رہتا ہے۔

رام سہائے مل : کہو، آج پانی کافی مل گیا؟

بھاگ وتی : (روہانی آواز میں) ابھی شام کو رام پرشاد لے آیا۔ بہت دور جانا پڑا، آس پاس کے کنوؤں میں لاشیں پڑی ہیں۔

رام سہائے مل : رام رام، رام رام۔۔۔۔۔ (اس کی طرف دیکھ کر) مگر تم روکیوں رہی ہو؟

بھاگ وتی : میرا بھی مرجانے کو جی چاہتا ہے۔

رام سہائے مل : کیوں، تم کیوں بیٹھے بیٹھے جان سے بیزار ہو گئی ہو؟

بھاگ وتی : کیا بتاؤں؟

رام سہائے مل : پرماتما کا شکر کرو۔ اتنی بڑی مصیبت آئی اور گزر گئی۔

بھاگ وتی : ہا۔

رام سہائے مل : مگر ابھی بہت پوکس رہنا ہے۔ دیکھتی رہنا دروازے سے پھرے والے نہ ہیں۔

بھاگ وتی : نہیں، میں تو برابر چکر لگاتی رہتی ہوں۔

رام سہائے مل : اور کوئی اندر نہ آنے پائے۔ مرد، عورت، بچہ۔

بھاگ وتی : نہیں، قصور ہو گا تو میرا ہو گا۔ میں کہہ دوں گی کہ میں نے آپ کو بتائے بغیر کیا ہے۔ مگر نہیں ہو سکتا کہ جان پیچان کی کوئی عورت یا بچہ پناہ مانگے اور میں اسے پناہ نہ دوں۔

**بھاگ و تی : (بھاگ و تی کو دیریک غور سے دیکھ کر) معلوم ہوتا ہے تم نے مجھے بتائے بغیر کسی کو گھر میں چھپا لیا ہے۔ اب تو ہماری جان پر ماتما کی دیا سے ہی بچ سکتی ہے..... تمہارا دل اتنا کمزور ہے تو تم مجھے کیوں نہیں بلا لیتی ہو؟**

**بھاگ و تی : میں چاہتی ہوں کہ آپ کو معلوم ہی نہ ہو۔**

**رام سہائے مل : یہ کون مانے گا کہ میرے گھر میں آدمی چھپے ہیں اور مجھے معلوم نہیں۔**

**بھاگ و تی : آدمی نہیں، لاوارث عورتیں بھوکے پیاس سے بچے!**

**رام سہائے مل : کس کی عورتیں، کس کے بچے؟**

**بھاگ و تی : یہ میں پوچھتی ہی نہیں ہوں۔**

**رام سہائے مل :** یا پوچھا ہے اور مجھے بتانا نہیں چاہتی ہو۔ ہمارے محلے میں ایسے لوگ ہیں ہی نہیں جنہوں نے بغاوت میں حصہ لیا ہو۔ یہ عورتیں اور بچے تو باہر سے آئے ہوں گے۔ (بھاگ و تی زمین پر بیٹھ کر اور اپنا منہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔) بتاؤ تو یہ ہیں کون؟ کبھی پوچھتا چھہ ہو تو میں جواب تو دے سکوں (بھاگ و تی سر ہلاتی ہے۔) اپھا، نہ بتاؤ۔ (خاموشی) جب لڑائی ہو رہی تھی تو تمہاری زبان پر تین چار نام رہا کرتے تھے..... بخت خاں کی آل اولاد یہاں تھی، ہی نہیں، سدھاری سنگھ بھی باہر کا آدمی ہے..... کیا کسی مسلمان عورت کو پناہ دی ہے؟..... ہندو عورتوں میں تو تمہارے رانی کشن کنور سے تعلقات تھے۔ نہار سنگھ روپیہ وصول کرنے آتا چاہتا تو زمین تیار کرنے سے پہلے اسی کو بھیجا تھا..... مگر کیا معلوم رانی بلجھ گڑھ میں ہے یا یہاں۔ بہر حال، جہاں بھی ہو، کوئی نہ کوئی اس کا پتہ دے گا ضرور۔..... اگر نہار سنگھ کو پکڑ لیا ہے تو شاید اس کو تلاش نہ کریں۔

**بھاگ و تی : کپڑا لیا ہے! (پھر زور سے رو تی ہے)**

**رام سہائے مل :** کپڑا لیا ہے تواب تو کوئی کپڑہ نہیں کر سکتا۔ اُس کے برابر سونادے کر اسے مول لینا چاہو تو نہ دیں گے..... تو رانی کشن کنور نے تمہارے یہاں پناہ لی ہے..... بے چاری! (رام سہائے سے اب اور کھایا نہیں جاتا۔ برتن سامنے سے کھسکا دیتا ہے۔ پانی پینا چاہتا ہے مگر پیالا دیریک ہاتھ میں لیے رہتا ہے اور پانی نہیں پاتا۔) کیا بہت رورہی ہے؟

**بھاگ و تی : (سر ہلا کر) نہیں، اس کا افسوس کر رہی ہے کہ جہادی عورتوں کے ساتھ میدان میں نہیں گئی اور ماری نہیں گئی۔**

- رام سہائے مل : رام رام، کیا ہمت ہے۔ اس کو اچھی طرح رکھنا۔ میں بھی کبھی اس کے درشن کروں گا.....اس کا ہمارے گھر میں رہنا کچھ ایسا خطرناک نہیں ہے۔ مسلمان عورت کی بات اور ہے۔
- بھاگ و تی : ایک مسلمان بہن بھی ہے۔
- رام سہائے مل : ہائے! کون؟
- بھاگ و تی : سملی۔
- رام سہائے مل : ارے وہی یوسف میاں کی مُنگیرت؟ وہ تو مور چوں پر لڑی بھی تھی۔
- بھاگ و تی : ہاں اس نے گھروں کی چھتوں پر سے بھی گولی چلائی۔ رانی کشن کنور بھی اس کے ساتھ بندوق چلا رہی تھیں۔ پھر وہ زخمی ہو گئی۔ رانی کشن کنور نے نہ جانے کس طرح اس کو یہاں پہنچایا۔ میں تو صحیتی تھی کہ مر جائے گی، مگر اب بھلی چنگی ہے۔ سوچ رہی ہے کہ کسی طرح دلی سے نکل جائے اور بخت خال کی فوج میں مل جائے۔ رانی کشن کنور کہتی ہیں کہ وہ بھی ساتھ جائیں گی۔
- رام سہائے مل : دیکھو، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس پر تیار ہوں کہ وہ یہاں چھپی رہیں، اور جب خطرہ نہ رہے تو چکے سے چلی جائیں۔ یہاں وہ سال بھر تک رہیں۔ مگر باہر جا کر پھر کہیں لڑائی میں شامل ہو کیں تو تم کپڑی جاؤ گی، اور مجھے تو ضرور پھانسی ہو جائے گی.....اور یوسف میاں کو کیا ہوا؟
- بھاگ و تی : سملی کو کچھ معلوم نہیں۔
- رام سہائے مل : اور تم کو معلوم ہو گا تو بتاؤ گی نہیں۔
- بھاگ و تی : سُنا ہے وہ آخر وقت تک لڑتے رہے۔ اردو بازار میں کسی گورے نے ایک عورت کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اُسے جان سے مار دیا۔ اس میں نہ معلوم کتنے کپڑے گئے، مگر وہ نہیں تھے۔ کہتے ہیں اب اردو بازار پر گولہ باری ہو گی۔ ایک مکان بھی کھڑا نہ چھوڑا جائے گا۔
- رام سہائے مل : اب پر ماتما بچائے ہم سب کو۔
- (ایک عورت گھرائی ہوئی اندر آتی ہے، اُس کے منھ سے بات نہیں نکلتی۔ پھر ایک ملازم آتا ہے۔)
- ملازم : سرکار، دروازے پر چار سپاہی آئے ہیں۔ کہتے ہیں دروازہ کھلو، ہم تلاشی لیں گے۔
- رام سہائے مل : میرے گھر میں نہیں آ سکتے۔ میرے پاس امان کا پروانہ ہے۔

- ملازم : سرکار، وہ ہماری بات نہیں مانیں گے۔  
 بھاگ و تی : پروانہ میرے پاس ہے۔ چلو میں دکھادوں گی۔  
 رام سہائے مل : تم کہاں جاؤ گی؟  
 بھاگ و تی : میں نہیں جاؤں گی تو اور کون جائے گا؟ میں نے مشہور کر دیا ہے کہ آپ انگریز کمانڈروں سے بات چیت کر رہے ہیں، گھر پر نہیں ہیں۔  
 رام سہائے مل : نہیں، تم بیٹھو، میں جاتا ہوں۔

(بھاگ و تی جلدی سے دیا بجا کر بھاگ جاتی ہے۔ رام سہائے مل اندر ہیرے میں بیٹھا رہتا ہے۔ کچھ دیر بعد دائیں طرف سے بھاگ و تی اُلٹے پاؤں چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چار سپاہی اسے ٹنگینوں سے دھماکا رہے ہیں۔ پہلا سپاہی ان کا سردار معلوم ہوتا ہے۔

- پہلا سپاہی : بتا کہاں ہیں وہ دونوں!  
 بھاگ و تی : (سمی ہوئی رُوانی، مگر بہت دبی آواز میں) یہاں کوئی نہیں چھپا ہے۔  
 پہلا سپاہی : یہاں دو عورتیں چھپی ہیں۔ ہمارے آدمیوں نے ان کو گولی چلاتے دیکھا، پھر وہ بھاگ کر اس گھر میں آتے ہوئے دیکھی گئیں۔ رام سرن اس عورت کو لے جا کر دیوار کے ساتھ کھڑا کرو، باقی تین آدمی فیر کرو۔  
 (رام سرن بھاگ و تی کی طرف بڑھتا ہے۔)

- رام سہائے مل : ارے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ ایک بے قصور عورت کو، اس طرح مار رہے ہو۔  
 پہلا سپاہی : اچھا، لا لا جی چھپے بیٹھے ہیں، سوچا تھا لائے ہم کو بہلا پھسلنا کر رخصت کر دے گی۔ رام سرن! کھڑا کرو انھیں بھی لائے کے ساتھ۔

- بھاگ و تی : (چلا کر) ارے مجھے مار ڈالو، انھیں چھوڑ دو! یہ بالکل کچھ نہیں جانتے! ارے یہ بالکل بے قصور ہیں۔  
 پہلا سپاہی : اچھا یہ بے قصور ہیں تو تمھیں تو معلوم ہے کہ دونوں عورتیں کہاں چھپی ہیں۔  
 بھاگ و تی : (ویسے ہی چلا کر) ارے انھیں چھوڑ دو! ہائے میری قسمت! یہ بالکل کچھ نہیں جانتے، ہائے ہائے!  
 (اسٹج کے دائیں طرف کے کونے سے سلمی اور کشن کنور اندر آتی ہیں۔)  
 سلمی : ان دونوں کا پچھا چھوڑ دو۔ ہم آگئے ہیں ہمیں جو سزا چاہودے دو۔ سیٹھ صاحب اور ان کی بیوی بالکل

بے قصور ہیں۔

- پہلا سپاہی : (سلملی اور کشن کنور کو غور سے دیکھنے کے بعد) مجھے تو تم اسی گھر انے کی عورتیں معلوم ہوتی ہو۔
- کشن کنور : ان دونوں کو چھوڑ دو۔ ہم تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ شہر میں ہزاروں آدمی ہم کو پہچان لیں گے۔
- پہلا سپاہی : ہاں، میں تم کو لے کر باہر چلا جاؤں اور اس دوران میں اصلی مجرم نکل جائیں۔
- سلملی : تمہاری مرضی، بے گناہوں کا خون کرنا تو تمہارا کام ہی ہے۔
- پہلا سپاہی : اچھا تو بتاؤ، کیا نام ہیں تمہارے؟
- سلملی : سلملی
- کشن کنور : کشن کنور
- پہلا سپاہی : تم اپنے جرم کا اقبال کرتی ہو؟
- سلملی : ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے بادشاہ کی طرف سے لڑے ہیں۔
- پہلا سپاہی : تم لڑائی میں شریک ہوئی ہو؟
- سلملی : دل و جان سے ہم شریک ہوئے، ہم نے دوسروں کو لڑنے پر آمادہ کیا۔ ہم مورچوں پر لڑے، ہم نے دشمنوں کو مارا۔
- کشن کنور : ہمیں افسوس اس کا ہے کہ اس سے زیادہ نہ کر سکے۔
- پہلا سپاہی : تو جاؤ کھڑی ہو جاؤ دیوار سے لگ کر۔
- سلملی : ہم دیوار سے لگ کر کیوں کھڑے ہوں؟ ہم صحن میں کھڑے ہوں گے اور تمہاری بندوقوں پر ٹھیسیں گے۔
- پہلا سپاہی : تو چلو کھڑی ہو جاؤ! اسی بات پر۔
- (سلملی اور کشن کنور نیچے صحن میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ پہلے سپاہی کے اشارے پر تین سپاہی اُن سے تین چار قدم ہٹ کر اور ایک گھٹنے کو زمین پر ٹیک کر بندوقیں تانتے ہیں۔ بھاگ و تی چیخ مار کر سپاہیوں اور دونوں عورتوں کے نیچے میں آ جاتی ہے۔ مگر غش کھا کر گر پڑتی ہے۔ سپاہی بندوقیں تانے رہتے ہیں، مگر انھیں فائز کرنے کا حکم نہیں ملتا۔ سلملی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے اور وہ بندوقوں کی طرف دیکھتی رہتی ہے۔ کشن کنور کی نظر آسمان کی طرف ہے، اس کے چہرے پر وجد کی کیفیت ہے۔ سپاہی فائز نہیں کرتے۔ ایک بارگی پہلا

سپاہی گھنٹوں پر جاتا ہے۔)

**پہلا سپاہی :** (ہاتھ جوڑ کر) ہماری خطا معاف کیجیے۔ ہم صرف اس کا یقین کرنا چاہتے تھے کہ آپ وہی ہیں جنھیں ڈھونڈ کر لانے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا۔

(قدیر کے اس انقلاب کو برداشت کرنا سلمی اور کشن کنور کے بس میں نہیں۔ کشن کنور چیخ مار کر گر پڑتی ہے۔ سلمی کی آنکھیں چڑھ جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں جواب دے دیتے ہیں اور وہ زمین پر ڈھیر ہو جاتی ہے۔)

**رام سہائے مل :** ظالموں! اب کب تک ان بے چاریوں کو مستاوے گے؟ ارے مارنا ہے تو ایک دفعہ مار دو!

**پہلا سپاہی :** (انہائی ندامت کے انداز میں) ہم انھیں تکلیف دینا نہیں چاہتے تھے، ان کے دل کی آرزو پوری کرنا چاہتے تھے۔ ہمیں جزیل بخت خاں نے انگریزی فوج کی وردیاں پہننا کر بھجوایا ہے کہ انھیں جلد سے جلد تلاش کر کے ان کے پاس پہنچا دیں۔ ہم نے ان کو صحیح سلامت نہ پہنچایا تو ہمارے گولی مار دی جائے گی، یا انگریز ہمیں پکڑ کر پھانسی دے دیں گے۔ (بھاگ و تی اس دوران میں اُٹھ کھڑی ہوتی ہے، اور کشن کنور اور سلمی کے منھ پر پانی کے چھینٹے دیتی ہے اور انکے سر سہلائی ہے۔)

**بھاگ و تی :** اُٹھو پیاری، تمہارے بخت خاں نے تمھیں بلا یا ہے۔ اپنے پیاروں کا بدلہ لو، اپنے ملک کی آبرو بڑھاؤ!

(آہستہ آہستہ سلمی اور کشن کنور کو ہوش آتا ہے۔ وہ اُٹھ کر بیٹھتی ہیں۔ بھاگ و تی انھیں پانی پلاتی ہے۔)

**پہلا سپاہی :** آپ سے پھر آپ کے قدموں پر گر کر معافی مانگتا ہوں۔ (سلمی اور کشن کنور مسکرا دینی ہیں۔) مگر ابھی ایک اور گستاخی کرنا ہے۔ ہم آپ کو شہر کے باہر صرف قیدی بنانے کے لئے جاسکتے ہیں۔ ہمیں آپ کی مشکلیں کسنا ہوں گی اور گلے میں رسیاں باندھنا۔

(سلمی اور کشن کنور ایک دوسرے کی طرف دیکھتی ہیں۔ پھر دونوں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ سپاہی جلدی جلدی ان کی مشکلیں کستے ہیں اور گلے میں پچنداڑا لتے ہیں۔ پھر ایک سپاہی آگے دو پیچھے اٹھن ہو جاتے ہیں۔ پہلا سپاہی روائی کا حکم دیتا ہے۔)

## مشق

### لفظ اور معنی:

ڈیٹ	: پُرانی قسم کا لکڑی کا چراغ دان
روانی (روہانی)	: رونے پر آمادہ
جہادی عورتیں	: جہاد کرنے والی عورتیں، مراد وہ عورتیں جنہوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جنگ میں حصہ لیا
امان کا پروانہ	: وہ حکم نامہ جس کے ذریعے تحفظ کی ضمانت دی جائے
سکین	: ایک سکیلہ تھیار جو بندوق کی نال پر لگایا جاتا ہے
فیر	: فائر
مشکل کنا	: دونوں بازو پشت پر باندھنا

### غور کرنے کی بات:

- آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ ڈراما 1857 کے تاریخی واقعات پر مبنی ہے۔ اس آخری ایکٹ میں لالہ رام سہائے کی بیوی بھاگ دتی نے جنگ آزادی میں شرکت کرنے والی دو جہادی عورتوں سلمی اور رانی کشن کنور کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے۔
- 1857 کی جنگ آزادی میں ہندو مسلمان مرد اور عورتوں نے برابر کا حصہ لیا۔ اس وقت یہ تفریق نہ تھی کہ کون ہندو ہے اور کون مسلمان۔ بس ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح ملک آزاد ہو جائے اور انگریز ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں۔

### سوالوں کے جواب لکھئے:

- رام سہائے اور اس کی بیوی بھاگ دتی کے خیالات میں کیا فرق ہے؟
- رام سہائے مل کے دروازے پر سپاہی آئے تو اس نے کیوں کہا کہ میرے پاس امان کا پروانہ ہے؟

3۔ سپاہی سلیمانی اور کشن نور کی مشکلیں کس کر شہر سے باہر کیوں لے جانا چاہتے تھے؟

### عملی کام:

○ اپنی کلاس میں الگ الگ کرداروں کے ذریعے اس ڈرامے کے مکالمے ادا کیجیے۔